

9-19/2023

مركز ايمونيزيشن و فيچو چيڙي ٻيڙو	
شماره: 1062	شماره: Shua
وقت: 09:58	تاريخ: 20.3.23
تعداد: 1	
تاريخ: 20.3.23	

وقت سرٿو ڪيو:

Handwritten signature and date: 20/03/2023

مركز ايمونيزيشن و فيچو چيڙي ٻيڙو

رٿيل سوشل ميڊيڪل سينٽر ٻيڙو

Handwritten signature and text: 20/03/2023

تاريخ: 19/03/2023

پښتانه په پښتو ژبه کې د پښتو ژبې د پوهنتون د لومړي کورس د کتابونو د نوملړ

د لومړي کورس د کتابونو نوملړ

د لومړي کورس د کتابونو نوملړ

- 1..... 1. د پښتو ژبې د پوهنتون د لومړي کورس د کتابونو د نوملړ
- 1..... 2. د پښتو ژبې د پوهنتون د لومړي کورس د کتابونو د نوملړ
- 2..... 3. د پښتو ژبې د پوهنتون د لومړي کورس د کتابونو د نوملړ
- 3..... 4. د پښتو ژبې د پوهنتون د لومړي کورس د کتابونو د نوملړ
- 3..... 5. د پښتو ژبې د پوهنتون د لومړي کورس د کتابونو د نوملړ

د دويم کورس د کتابونو نوملړ

د دويم کورس د کتابونو نوملړ

- 3..... 6. د پښتو ژبې د پوهنتون د دويم کورس د کتابونو د نوملړ
- 4..... 7. د پښتو ژبې د پوهنتون د دويم کورس د کتابونو د نوملړ
- 4..... 8. د پښتو ژبې د پوهنتون د دويم کورس د کتابونو د نوملړ
- 7..... 9. د پښتو ژبې د پوهنتون د دويم کورس د کتابونو د نوملړ
- 8..... 10. د پښتو ژبې د پوهنتون د دويم کورس د کتابونو د نوملړ
- 9..... 11. د پښتو ژبې د پوهنتون د دويم کورس د کتابونو د نوملړ
- 9..... 12. د پښتو ژبې د پوهنتون د دويم کورس د کتابونو د نوملړ

د درېيم کورس د کتابونو نوملړ

د درېيم کورس د کتابونو نوملړ

- 11..... 13. د پښتو ژبې د پوهنتون د درېيم کورس د کتابونو د نوملړ
- 12..... 14. د پښتو ژبې د پوهنتون د درېيم کورس د کتابونو د نوملړ
- 12..... 15. د پښتو ژبې د پوهنتون د درېيم کورس د کتابونو د نوملړ
- 14..... 16. د پښتو ژبې د پوهنتون د درېيم کورس د کتابونو د نوملړ
- 15..... 17. د پښتو ژبې د پوهنتون د درېيم کورس د کتابونو د نوملړ
- 16..... 18. د پښتو ژبې د پوهنتون د درېيم کورس د کتابونو د نوملړ
- 16..... 19. د پښتو ژبې د پوهنتون د درېيم کورس د کتابونو د نوملړ
- 16..... 20. د پښتو ژبې د پوهنتون د درېيم کورس د کتابونو د نوملړ



- 48..... 69. 48..... 70. 49..... 71. 49..... 72. 49..... 73. 50..... 74.

75

76

- 51..... 75. 53..... 76. 77. 53..... 78. 54..... 79. 55..... 80. 56..... 81. 56..... 82. 57..... 83. 58..... 84. 58..... 85. 58..... 86. 59..... 87.

88

89

- 59..... 88. 60..... 89. 61..... 90. 61..... 91.



«...»
«...»

(2) «...»
«...»
«...»

(3) «...»
«...»
«...»

(4) «...»
«...»

(5) «...»
«...»
«...»
«...»
«...»

7. «...»
«...»
«...»
«...»

8. (6) «...»
«...»
«...»



1. **دستورالعملهای اجرایی** در خصوص **تعمیرات اساسی** در **مدرسه**
دستورالعملهای اجرایی در **مدرسه** **تعمیرات اساسی** **دستورالعملهای**
مدرسه **تعمیرات اساسی** **دستورالعملهای**

2. **دستورالعملهای اجرایی** در **مدرسه** **تعمیرات اساسی** **دستورالعملهای**
مدرسه **تعمیرات اساسی** **دستورالعملهای**

3. **دستورالعملهای اجرایی** در **مدرسه** **تعمیرات اساسی** **دستورالعملهای**
مدرسه **تعمیرات اساسی** **دستورالعملهای**
مدرسه **تعمیرات اساسی** **دستورالعملهای**
مدرسه **تعمیرات اساسی** **دستورالعملهای**
مدرسه **تعمیرات اساسی** **دستورالعملهای**
مدرسه **تعمیرات اساسی** **دستورالعملهای**

4. **دستورالعملهای اجرایی** در **مدرسه** **تعمیرات اساسی** **دستورالعملهای**
مدرسه **تعمیرات اساسی** **دستورالعملهای**

موضوعات

موضوعات

13. **دستورالعملهای اجرایی** در **مدرسه** **تعمیرات اساسی** **دستورالعملهای**
مدرسه **تعمیرات اساسی** **دستورالعملهای**
مدرسه **تعمیرات اساسی** **دستورالعملهای**
مدرسه **تعمیرات اساسی** **دستورالعملهای**



قېرىنداشلىق ۋە تىنچلىق ئۈچۈن بىزنىڭ بىرلىشىشىمىز كېرەك. بىزنىڭ بىرلىشىشىمىز ئۈچۈن بىزنىڭ بىرلىشىشىمىز كېرەك. بىزنىڭ بىرلىشىشىمىز ئۈچۈن بىزنىڭ بىرلىشىشىمىز كېرەك.

(س) بىزنىڭ بىرلىشىشىمىز ئۈچۈن بىزنىڭ بىرلىشىشىمىز كېرەك. بىزنىڭ بىرلىشىشىمىز ئۈچۈن بىزنىڭ بىرلىشىشىمىز كېرەك. بىزنىڭ بىرلىشىشىمىز ئۈچۈن بىزنىڭ بىرلىشىشىمىز كېرەك.

(س) بىزنىڭ بىرلىشىشىمىز ئۈچۈن بىزنىڭ بىرلىشىشىمىز كېرەك. بىزنىڭ بىرلىشىشىمىز ئۈچۈن بىزنىڭ بىرلىشىشىمىز كېرەك. بىزنىڭ بىرلىشىشىمىز ئۈچۈن بىزنىڭ بىرلىشىشىمىز كېرەك.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِٖ وَسَلَّمَ.

(ع) اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِٖ وَسَلَّمَ، وَجِزَّةً لِّمَنْ يُّؤَدِّيْ رِجَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِكَ بِقَرَّةٍ وَجَدِّدْ لَنَا اَيَّامَنَا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِيْمِيْنَ.

(ر) اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِٖ وَسَلَّمَ، وَجِزَّةً لِّمَنْ يُّؤَدِّيْ رِجَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِكَ بِقَرَّةٍ وَجَدِّدْ لَنَا اَيَّامَنَا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِيْمِيْنَ.

57

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِٖ وَسَلَّمَ

(س) اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِٖ وَسَلَّمَ، وَجِزَّةً لِّمَنْ يُّؤَدِّيْ رِجَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِكَ بِقَرَّةٍ وَجَدِّدْ لَنَا اَيَّامَنَا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِيْمِيْنَ.

(س) اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِٖ وَسَلَّمَ، وَجِزَّةً لِّمَنْ يُّؤَدِّيْ رِجَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِكَ بِقَرَّةٍ وَجَدِّدْ لَنَا اَيَّامَنَا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِيْمِيْنَ.

(م) اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِٖ وَسَلَّمَ، وَجِزَّةً لِّمَنْ يُّؤَدِّيْ رِجَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِكَ بِقَرَّةٍ وَجَدِّدْ لَنَا اَيَّامَنَا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِيْمِيْنَ.

(ر) 58 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِٖ وَسَلَّمَ، وَجِزَّةً لِّمَنْ يُّؤَدِّيْ رِجَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِكَ بِقَرَّةٍ وَجَدِّدْ لَنَا اَيَّامَنَا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِيْمِيْنَ.

(س) اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِٖ وَسَلَّمَ، وَجِزَّةً لِّمَنْ يُّؤَدِّيْ رِجَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِكَ بِقَرَّةٍ وَجَدِّدْ لَنَا اَيَّامَنَا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِيْمِيْنَ.



داریسوانی هیئت مدیره و هیئت مدیران، از هیئت مدیران شرکت برادران
 رسد و قرار داد شرکت هیئت مدیران (سهامداران شرکت) از آن
 بهر صورت و نامشروع در هر صورت و نامشروع، سهامداران شرکت در شرکت
 شرکتی در شرکتی 40 (سی و) درصد شرکتی، در شرکتی
 (س) که در شرکتی و هیئت مدیران از هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی
 از آن برادران قرار داد شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی
 در شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی
 از آن هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی
 در شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی
 در شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی

(س) در شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی
 در شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی
 از آن هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی
 50,000/- (پنجاه هزار ریال) و 100,000/- (صد هزار ریال)
 در شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی

(س) در شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی
 از آن هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی
 در شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی

74. در شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی
 از آن هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی
 در شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی
 از آن هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی
 در شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی و هیئت مدیران شرکتی



75

75. (a) The Government of Karnataka

(a) The Government of Karnataka has decided to... (Arabic text describing government decisions regarding...)

(b) The Government of Karnataka has decided to... (Arabic text describing government decisions regarding...)

(c) The Government of Karnataka has decided to... (Arabic text describing government decisions regarding...)

(d) The Government of Karnataka has decided to... (Arabic text describing government decisions regarding...)

(1) The Government of Karnataka has decided to... (Arabic text describing government decisions regarding...)

(2) The Government of Karnataka has decided to... (Arabic text describing government decisions regarding...)



مَدِينَةُ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ

84. مَا أَصْلُهَا وَمَا مَعْنَاهَا؟
 مَدِينَةُ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ هِيَ الْمَدِينَةُ الَّتِي بَنَاهَا نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ ﷺ فِي بِلَادِ حِجَازٍ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ فِي أَرْضِ حَرَامٍ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ هِيَ الْمَدِينَةُ الَّتِي بَنَاهَا نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ ﷺ فِي بِلَادِ حِجَازٍ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ فِي أَرْضِ حَرَامٍ

85. (أ) قَدْ قَرَأْتُ فِي كِتَابِكَ أَنَّ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ هِيَ الْمَدِينَةُ الَّتِي بَنَاهَا نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ ﷺ فِي بِلَادِ حِجَازٍ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ فِي أَرْضِ حَرَامٍ
 وَمَا مَعْنَاهَا؟
 مَدِينَةُ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ هِيَ الْمَدِينَةُ الَّتِي بَنَاهَا نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ ﷺ فِي بِلَادِ حِجَازٍ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ فِي أَرْضِ حَرَامٍ

(ب) وَكَانَ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ ﷺ إِذَا حَجَّ إِلَى مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ يَتَوَضَّأُ فِي بِلَادِ حِجَازٍ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ فِي أَرْضِ حَرَامٍ
 وَمَا مَعْنَاهَا؟
 مَدِينَةُ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ هِيَ الْمَدِينَةُ الَّتِي بَنَاهَا نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ ﷺ فِي بِلَادِ حِجَازٍ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ فِي أَرْضِ حَرَامٍ

(ج) وَكَانَ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ ﷺ إِذَا حَجَّ إِلَى مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ يَتَوَضَّأُ فِي بِلَادِ حِجَازٍ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ فِي أَرْضِ حَرَامٍ
 وَمَا مَعْنَاهَا؟
 مَدِينَةُ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ هِيَ الْمَدِينَةُ الَّتِي بَنَاهَا نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ ﷺ فِي بِلَادِ حِجَازٍ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ فِي أَرْضِ حَرَامٍ

86. مَا أَصْلُهَا وَمَا مَعْنَاهَا؟
 مَدِينَةُ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ هِيَ الْمَدِينَةُ الَّتِي بَنَاهَا نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ ﷺ فِي بِلَادِ حِجَازٍ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ فِي أَرْضِ حَرَامٍ



Handwritten signature in blue ink.

(س) قیود و ضوابط کے تحت اس کے لئے فراہم کیے گئے ہیں اور اس کے لئے
مقررہ شرائط کے تحت فراہم کیے گئے ہیں۔

89. (س) قیود و ضوابط کے تحت اس کے لئے فراہم کیے گئے ہیں اور اس کے لئے
مقررہ شرائط کے تحت فراہم کیے گئے ہیں۔

(1) قیود و ضوابط کے تحت اس کے لئے فراہم کیے گئے ہیں اور اس کے لئے
مقررہ شرائط کے تحت فراہم کیے گئے ہیں۔

(2) قیود و ضوابط کے تحت اس کے لئے فراہم کیے گئے ہیں اور اس کے لئے
مقررہ شرائط کے تحت فراہم کیے گئے ہیں۔


(3) قیود و ضوابط کے تحت اس کے لئے فراہم کیے گئے ہیں اور اس کے لئے
مقررہ شرائط کے تحت فراہم کیے گئے ہیں۔

(4) قیود و ضوابط کے تحت اس کے لئے فراہم کیے گئے ہیں اور اس کے لئے
مقررہ شرائط کے تحت فراہم کیے گئے ہیں۔

(س) قیود و ضوابط کے تحت اس کے لئے فراہم کیے گئے ہیں اور اس کے لئے
مقررہ شرائط کے تحت فراہم کیے گئے ہیں۔

(س) قیود و ضوابط کے تحت اس کے لئے فراہم کیے گئے ہیں اور اس کے لئے
مقررہ شرائط کے تحت فراہم کیے گئے ہیں۔

(س) قیود و ضوابط کے تحت اس کے لئے فراہم کیے گئے ہیں اور اس کے لئے
مقررہ شرائط کے تحت فراہم کیے گئے ہیں۔



92. (a) $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$, $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$
 $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$

92. (a) $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$
 $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$

(b) $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$
 $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$

93


93

93. (a) $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$
 $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$

(b) $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$
 $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$

(c) $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$
 $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$

(d) $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$
 $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$



مجلس شورای اسلامی
جمهوری اسلامی ایران

104. در تفسیر 101 ماده ذواتی (س) و مرتبه استماع برآورد و سنجش
مجموعه شواهد و قرائن و سایر موارد در صورت لزوم از سوی مراجع ذیصلاح
صالح است و استناد به شواهد و قرائن و سایر موارد در صورت لزوم.

(س) در صورت لزوم استناد به شواهد و قرائن؛

(س) قرائن 1 (ماده) از مرتبه قرائن قویتر است و سنجش قرائن
در صورت لزوم از سوی مراجع ذیصلاح و سایر مراجع ذیصلاح؛

(س) استماع شواهد و قرائن در صورت لزوم از سوی مراجع ذیصلاح
در صورت لزوم استناد به شواهد و قرائن؛

(س) استماع شواهد و قرائن از سوی مراجع ذیصلاح و سایر مراجع ذیصلاح
در صورت لزوم؛

(ه) در صورت لزوم استماع شواهد و قرائن از سوی مراجع ذیصلاح
و سایر مراجع ذیصلاح و سایر مراجع ذیصلاح؛

(ع) در صورت لزوم استماع شواهد و قرائن از سوی مراجع ذیصلاح
در صورت لزوم 3 (ماده) از مرتبه قرائن و سایر مراجع ذیصلاح
در صورت لزوم؛

(ص) استماع شواهد و قرائن از سوی مراجع ذیصلاح و سایر مراجع ذیصلاح
در صورت لزوم، استماع شواهد و قرائن از سوی مراجع ذیصلاح
و سایر مراجع ذیصلاح و سایر مراجع ذیصلاح؛



በገንዘብ አጠቃቀም ላይ ለሚገኙ ገንዘቦች ለማሰባሰብ ማዕከላዊ ገንዘብ ማጠቃለያ ማድረግ ይገባል።

116. ለገንዘብ አጠቃቀም ማሰባሰብ ማዕከላዊ ገንዘብ ማጠቃለያ ማድረግ ይገባል።
 ለገንዘብ አጠቃቀም ማሰባሰብ ማዕከላዊ ገንዘብ ማጠቃለያ ማድረግ ይገባል።
 ለገንዘብ አጠቃቀም ማሰባሰብ ማዕከላዊ ገንዘብ ማጠቃለያ ማድረግ ይገባል።

117. (ሀ) ለገንዘብ አጠቃቀም ማሰባሰብ ማዕከላዊ ገንዘብ ማጠቃለያ ማድረግ ይገባል።
 ለገንዘብ አጠቃቀም ማሰባሰብ ማዕከላዊ ገንዘብ ማጠቃለያ ማድረግ ይገባል።
 ለገንዘብ አጠቃቀም ማሰባሰብ ማዕከላዊ ገንዘብ ማጠቃለያ ማድረግ ይገባል።

(ለ) ለገንዘብ አጠቃቀም ማሰባሰብ ማዕከላዊ ገንዘብ ማጠቃለያ ማድረግ ይገባል።
 ለገንዘብ አጠቃቀም ማሰባሰብ ማዕከላዊ ገንዘብ ማጠቃለያ ማድረግ ይገባል።
 ለገንዘብ አጠቃቀም ማሰባሰብ ማዕከላዊ ገንዘብ ማጠቃለያ ማድረግ ይገባል።

(ሐ) ለገንዘብ አጠቃቀም ማሰባሰብ ማዕከላዊ ገንዘብ ማጠቃለያ ማድረግ ይገባል።
 ለገንዘብ አጠቃቀም ማሰባሰብ ማዕከላዊ ገንዘብ ማጠቃለያ ማድረግ ይገባል።
 ለገንዘብ አጠቃቀም ማሰባሰብ ማዕከላዊ ገንዘብ ማጠቃለያ ማድረግ ይገባል።

118. ለገንዘብ አጠቃቀም ማሰባሰብ ማዕከላዊ ገንዘብ ማጠቃለያ ማድረግ ይገባል።
 ለገንዘብ አጠቃቀም ማሰባሰብ ማዕከላዊ ገንዘብ ማጠቃለያ ማድረግ ይገባል።



123. 23. 2011/R-12. 124. 125. 126.

123. 124. 125. 126.

123. 124. 125. 126.

123. 124. 125. 126.

123. 124. 125. 126.

123. 124. 125. 126.


123. 124. 125. 126.

123. 124. 125. 126.

123. 124. 125. 126.

123. 124. 125. 126.

123. 124. 125. 126.



بہت کم عمر کے بچوں اور عورتوں کو شادی سے روکنا اور ان کے حقوق کو برقرار رکھنا اور ان کے ساتھ برابری کا رویہ اپنانا۔

(ر) "فوجی قتل" کے بارے میں "سول سوسائٹی" کے رپورٹوں اور دیگر ذرائع سے معلومات حاصل کرنا اور ان کو شادی کے وقت پیش کرنا اور ان کے ساتھ برابری کا رویہ اپنانا۔

(س) "سول سوسائٹی" کے رپورٹوں اور دیگر ذرائع سے معلومات حاصل کرنا اور ان کو شادی کے وقت پیش کرنا اور ان کے ساتھ برابری کا رویہ اپنانا۔

(س) "سول سوسائٹی" کے رپورٹوں اور دیگر ذرائع سے معلومات حاصل کرنا اور ان کو شادی کے وقت پیش کرنا اور ان کے ساتھ برابری کا رویہ اپنانا۔

(س) "سول سوسائٹی" کے رپورٹوں اور دیگر ذرائع سے معلومات حاصل کرنا اور ان کو شادی کے وقت پیش کرنا اور ان کے ساتھ برابری کا رویہ اپنانا۔

(س) "سول سوسائٹی" کے رپورٹوں اور دیگر ذرائع سے معلومات حاصل کرنا اور ان کو شادی کے وقت پیش کرنا اور ان کے ساتھ برابری کا رویہ اپنانا۔

(س) "سول سوسائٹی" کے رپورٹوں اور دیگر ذرائع سے معلومات حاصل کرنا اور ان کو شادی کے وقت پیش کرنا اور ان کے ساتھ برابری کا رویہ اپنانا۔



(ص) "جسٹس جی ایم" راجسٹرڈ ڈسٹریبیوٹرز، ڈسٹریبیوٹرز کے ذریعے
سپلائی کیے گئے ہیں۔ ان کے ذریعے ڈسٹریبیوٹرز کو سپلائی کیا گیا ہے۔
برقی طور پر ڈسٹریبیوٹرز کے ذریعے ڈسٹریبیوٹرز کو سپلائی کیا گیا ہے۔

(ط) "ایس ایم ڈسٹریبیوٹرز" راجسٹرڈ ڈسٹریبیوٹرز، ڈسٹریبیوٹرز کے ذریعے
ڈسٹریبیوٹرز کو سپلائی کیا گیا ہے۔ ان کے ذریعے ڈسٹریبیوٹرز کو سپلائی کیا گیا ہے۔

(ی) "ایس ایم ڈسٹریبیوٹرز" راجسٹرڈ ڈسٹریبیوٹرز، ڈسٹریبیوٹرز کے ذریعے
ڈسٹریبیوٹرز کو سپلائی کیا گیا ہے۔ ان کے ذریعے ڈسٹریبیوٹرز کو سپلائی کیا گیا ہے۔

(ب) "ایس ایم ڈسٹریبیوٹرز" راجسٹرڈ ڈسٹریبیوٹرز، ڈسٹریبیوٹرز کے ذریعے
ڈسٹریبیوٹرز کو سپلائی کیا گیا ہے۔ ان کے ذریعے ڈسٹریبیوٹرز کو سپلائی کیا گیا ہے۔

(س) "ایس ایم ڈسٹریبیوٹرز" راجسٹرڈ ڈسٹریبیوٹرز، ڈسٹریبیوٹرز کے ذریعے
ڈسٹریبیوٹرز کو سپلائی کیا گیا ہے۔ ان کے ذریعے ڈسٹریبیوٹرز کو سپلائی کیا گیا ہے۔

(د) "ایس ایم ڈسٹریبیوٹرز" راجسٹرڈ ڈسٹریبیوٹرز، ڈسٹریبیوٹرز کے ذریعے
ڈسٹریبیوٹرز کو سپلائی کیا گیا ہے۔ ان کے ذریعے ڈسٹریبیوٹرز کو سپلائی کیا گیا ہے۔



1.Details of Personal Emoluments - Industrial Relations Bill

BUSINESS AREA	DESIGNATION	no.of.staffs	Basic Salary	Allowances	Total	Pension
CIVIL SERVICE/POLITICAL						
Ministry of Economic Development	Registrar of Unions	1	216,000	165,000	396,120	15,120
	Executive	1	67,370	73,772	145,804	4,712
	Support	2	53,580	178,919	240,000	7,501
	Professional	2	120,240	582,926	720,000	16,834
Labour Relations Authority	Director General of Industrial relations	1	166,680	154,676	333,024	11,668
	Executive	1	67,320	73,772	145,804	4,712
	Investigation Officer	6	94,740	945,469	1,080,000	39,791
	Support	3	53,580	295,168	360,000	11,252
	Professional*	8	120,240	2,692,426	2,880,000	67,334
Employment Tribunal	Industrial Dispute Resolution Division employment trib	2	300,000	102,000	444,000	42,000
	Case Officer	2	53,580	178,919	240,000	7,501
	Admin Officer	1	53,580	62,669	120,000	3,751
	Legal	2	120,240	582,926	720,000	16,834
TOTAL		32	1,487,100	6,088,642	7,824,752	249,010
BOARDS/COMMITTEES						
Ministry of Economic Development	Tripartite labour advisory board	8	-	2,000	192,000	-
Employment Tribunal	Industrial Dispute Resolution Division*	12	-	2,000	288,000	-
TOTAL		20	-	4,000	480,000	-
GRAND TOTAL		52	1,487,100	6,092,642	8,304,752	249,010

2.Details of Other Expenditures - Industrial Relations Bill

Expenditure Type	Details	2023	2024
R	Staff Cost	8,304,752	8,304,752
C	Development Cost	500,000	-
C	Office Setup	500,000	135,730
R	Awareness & Facilitation	250,000	100,000
R	Stationaries	100,000	95,000
R	Rent	480,000	480,000
R	Utilities	150,000	150,000
R	Other	100,000	50,000
R	Travel	300,000	318,270
R	Repairs	-	50,000
R	Training	1,000,000	200,000
		11,684,752	9,883,752

Notes:

- * Professionals for LRA includes 5 conciliators
- * Industrial Dispute Resolution Division is established in Employment Tribunal and consists of 14 elected members of which 2 members are from employment tribunal
- * Development costs include the costs for portal/software developments
- * Awareness program will be funded from the revenue generated
- * Travels include expenditures for islands/monitoring trips
- * Training for overseas travels included

